

ایگزیکٹو آرڈر

ریاست نیویارک میں منکی پاکس وائرس کے جاری پھیلاؤ کی وجہ سے پوری ریاست میں آفات کی ایمرجنسی کے اعلان کو جاری رکھنا

جبکہ، منکی پاکس وائرس کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے 23 جولائی، 2022 کو صحت عامہ کی بین الاقوامی سطح پر تشویشناک ہنگامی صورتحال قرار دیا گیا ہے؛

جبکہ، منکی پاکس کے موجودہ پھیلاؤ اور اس وائرس سے انسانی صحت کو لاحق قابل توجہ خطرات کے باعث، منکی پاکس وائرس کو ریاست نیویارک کے کمشنر برائے صحت نے 29 جولائی، 2022 کو صحت عامہ کے لیے ایک فوری خطرہ قرار دیا ہے۔

جبکہ، ریاست نیویارک میں 26 اگست، 2022 تک 3124 کیسز رپورٹ ہونے کے سبب، نیویارک کو ملک بھر میں منتقلی کی سب سے بلند شرح کا سامنا ہے۔

جبکہ، صحت کے مقامی محکمے مسلسل منکی پاکس کی وباء کے خلاف تشخیص میں معاونت، رابطے می رہنے والے افراد کی شناخت اور نگرانی، زد میں آ جانے والے رابطے میں رہنے والے افراد اور خصوصی توجہ یافتہ زیادہ خطرے کی زد میں موجود آبادیوں کو ویکسین لگائے جانے اور تعلیم اور رسائی کے ذریعے امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں۔

جبکہ، ریاست نیویارک کی حکومت کو میونسپلٹی، مقامی علاقوں اور کاؤنٹیز کی منکی پاکس کی ویکسین لگانے اور ٹیسٹ کرنے؛ اور اس مرض کے پھیلاؤ کو جاری رہنے سے روکنے کے لیے کوششوں میں سہولت کاری کے لیے ان کی معاونت کرنا ہو گی۔

اب، اسی بنا پر، میں، **Kathy Hochul**، ریاست نیویارک کی گورنر، ریاست نیویارک کے آئین اور نیویارک کی ریاست کے قوانین کی رو سے خود کو تفویض کردہ اختیار کے تحت، بذریعہ ہذا ایگزیکٹو آرڈر 20 میں بیان کردہ ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کو توسیع دیتی ہوں، اور ایگزیکٹو آرڈر 20 میں موجود قانون کی شرائط، ضوابط، اور معطلیوں کو 27 ستمبر، 2022 تک جاری رکھتی ہوں؛

مزید، ایگزیکٹو قانون کے آرٹیکل B-2 کے سیکشن 29 کے تحت مجھے تفویض شدہ اختیار کے تحت کہ کسی ریاستی آفت کی ہنگامی صورتحال کے دوران کسی ایجنسی کے دستور، مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول یا ضابطے، یا ان کے کسی حصے کو عارضی طور پر معطل یا تبدیل کر سکوں، اگر اس دستور، مقامی قانون، آرڈیننس، حکم نامے، اصول یا ضابطے کی تعمیل آفت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لازمی کارروائی کو روکے، اس کی راہ میں رکاوٹ ہو یا اس میں تاخیر کرے یا اس آفت سے نمٹنے کے لیے وہ تبدیلی لازمی ہو، میں اس ایگزیکٹو حکم نامے پر درج تاریخ سے 27 ستمبر، 2022 تک ان سب کو عارضی طور پر معطل یا ان میں تبدیلی کرتی ہوں:

- انشورنس کے قانون کے سیکشنز 3216(E)(8)(I)3221، (E)(17)(i)، اور (j)(3)4303، کو اس حد تک جو کہ مندرجہ ذیل کے لیے ضروری ہو: (1) درکار کوریج، بغیر کسی شریک ادائیگی، شریک انشورنس، یا سالانہ کٹوتیوں کے، منکی پاکس وائرس کی حفاظتی ویکسین لگانے کے لیے، اور اسے لگانے کا انتظام، جب 30 مارچ 2010 سے پہلے خریدی گئی صحت کے بیمہ کی انفرادی پالیسیوں کے

پلان کے لیے نیٹ ورک میں یا نیٹ ورک سے باہر فراہم کیا جاتا ہو اور ان افراد کے لیے ہو جو بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کی امیونائزیشن پریکٹسز ("ACIP") سے متعلق مشاورتی کمیٹی کی سفارش کے اندر نہ آتے ہوں؛ اور (2) اس کے حفاظتی ٹیکوں کے لیے، اور اسے لگانے کے انتظام، کے لیے شریک ادائیگیوں، شریک بیمہ، اور سالانہ کٹوتیوں کو معاف کریں، جب ACIP کی سفارش سے مشروط افراد کے حوالے سے نیٹ ورک سے باہر فراہم کی جائیں؛

- انشورنس کے قانون کے سیکشن 3221(h) اور (f)(1)، 4303(e)(1)(3)(I)، اور (II)، اور 4328(b)(1) کو اس حد تک جو کہ شریک ادائیگی، شریک بیمہ، اور سالانہ کٹوتیوں کو معاف کرنے کے لیے ضروری ہے برائے: (1) منکی پاکس وائرس کی تشخیص کے لیے نیٹ ورک کے اندر لیبارٹری ٹیسٹنگ؛ اور (2) مندرجہ ذیل مقامات پر منکی پاکس وائرس کی تشخیص کے لیے دورے، بشمول ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے: ایک نیٹ ورک کے اندر کے فراہم کنندہ کا دفتر، ایک نیٹ ورک کے اندر کا فوری نگہداشت کا مرکز، کوئی دوسرا نیٹ ورک کے اندر بیرونی مریضوں کو خدمات فراہم کنندہ ادارہ جو منکی پاکس کی تشخیص کرنے کے قابل ہو، یا ایمرجنسی ہسپتال کا شعبہ، تاہم، بشرطیکہ شریک ادائیگیاں، شریک بیمہ، اور سالانہ کٹوتیاں قابل اطلاق پالیسی کے مطابق عائد کی جا سکتی ہوں یا منکی پاکس وائرس کے لیے کسی بھی پیروی کی نگہداشت یا علاج کے معاہدے کے مطابق، بشمول ایک اندرونی مریض کا ہسپتال میں داخلہ، جیسا کہ قانون کی جانب سے اجازت شدہ ہو، اور اگر بصورت دیگر قانونی تقاضہ ہو تو انٹرنل ریونیو کوڈ سیکشن 223(c)(2) کے ذریعے بیان کردہ زیادہ کٹوتی والے صحت کے منصوبے کے لیے کٹوتی کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔

سال دو ہزار بائیس میں آج اگست کی اٹھائیس

تاریخ کو البانی شہر میں میرے

دستخط اور ریاست کی مجوزہ مہر

کے تحت جاری کیا گیا

منجانب گورنر

سیکرٹری از گورنر